


DÄNKÅ



Design and Quality
IKEA of Sweden

English

IMPORTANT!

SAVE FOR FUTURE USE.

Deutsch

WICHTIG.

DIESE INFORMATION SORGFÄLTIG
DURCHLESEN UND FÜR SPÄTER
AUFBEWAHREN.

Français

IMPORTANT !:

À CONSERVER !

Nederlands

BELANGRIJK.

BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
GOED DOORLEZEN.

Dansk

VIGTIGT!

GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

Íslenska

ÁRÍÐANDI!

GEYMIÐ ÞETTA TIL NOTKUNAR Í
FRAMTÍÐINNI.

Norsk

VIKTIG!

GJEM DENNE FOR FREMTIDIG BRUK. LES
NØYE.

Suomi

TÄRKEÄÄ.

TALLETA OHJE TULEVAA KÄYTTÖÄ
VARTEN. LUE HUOLELLISESTI.

Svenska

VIKTIGT.

SPARA DETTA FÖR FRAMTIDA BRUK. LÄS
NOGA.

Česky

DŮLEŽITÉ!

PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

Español

IMPORTANTE.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LÉELAS
DETENIDAMENTE.

Italiano

IMPORTANTE!

LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE
ISTRUZIONI E CONSERVALE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI.

Magyar

FONTOS !

ŐRIZD MEG, HOGY A JÖVŐBEN IS
HASZNÁLHASD.

Polski

UWAGA!

ZACHOWAJ DO PÓZNIEJSZEGO UŻYTKU.

Eesti

OLULINE!

HOIDKE HILISEMA VAJADUSE TARBEKS
ALLES.

Latviešu

SVARĪGI!

SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI.

Lietuvių

SVARBU!

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Portugues

IMPORTANTE!

GUARDE PARA USAR NO FUTURO.

Româna

IMPORTANT!

SALVEAZĂ PENTRU UTILIZĂRI VIITOARE!

Slovensky

Dôležité!

Uschovajte pre prípad potreby.

Български

ВАЖНО!

ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

Hrvatski

VAŽNO!

SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ελληνικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Українська

ВАЖЛИВО!

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Srpski

VAŽNO!

SAČUVAJ ZA UBUDUĆE.

Slovenščina

POMEMBNO!

SHRANI ZA KASNEJŠO UPORABO.

Türkçe

ÖNEMLİ!

İLERİKİ KULLANIMLAR İÇİN SAKLAYINIZ.

中文

重要信息材料，应予以 妥善保存！

繁中

注意！

請保存以供未來參考之用。

한국어

중요!

추후 참고를 위해 별도로 보관해 주세요.

日本語

重要！

必要な時にご覧頂けるよう大切に保管して
ください

Bahasa Indonesia

PENTING!

SIMPAN UNTUK PENGGUNAAN MASA
DEPAN.

Bahasa Malaysia

PENTING!

SIMPAN UNTUK RUJUKAN.

عربي

هام!
يحفظ للمراجعة.

ไทย

สำคัญ!

เก็บข้อมูลนี้ไว้สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป

English

WARNING!

Do not use if any part is broken, torn or missing.

Deutsch

ACHTUNG!

Das Produkt nicht benutzen, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.

Français

AVERTISSEMENT :

ne pas utiliser la table à repasser si une partie est cassée, endommagée ou manquante.

Nederlands

WAARSCHUWING!

Gebruik het product niet wanneer er een onderdeel kapot is of ontbreekt.

Dansk

ADVARSEL!

Må ikke bruges, hvis dele er ødelagt eller mangler.

Íslenska

VARÚÐ!

Ekki nota ef einhverja hluta vantar eða ef eitthvað er brotið eða rífið.

Norsk

ADVARSEL!

Må ikke brukes hvis noen av delene er ødelagt, revet opp eller mangler.

Suomi

VAROITUS!

Älä käyttää tuotetta, jos jokin sen osa on rikki, vahingoittunut tai puuttuu.

Svenska

VARNING!

Använd inte produkten om någon del är sönder eller saknas.

Česky

UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte, pokud je jakákoliv část výrobku rozbitá nebo chybí.

Español

¡ATENCIÓN!

No utilizar el producto si alguna pieza está rota, dañada o falta.

Italiano

AVVERTENZA!

Non usare il prodotto in caso di parti danneggiate, rotte o mancanti.

Magyar

FIGYELEM!

Ne használd, ha bármelyik alkatrész törött, sérült vagy hiányzik.

Polski

OSTRZEŻENIE!

Nie używać, jeśli którakolwiek część jest złamana, zużyta lub jej brakuje.

Eesti

HOIATUS!

Ära kasuta, kui mõni osa on katki, rebenenud või kadunud.

Latviešu

BRĪDINĀJUMS!

Nelietot, ja kāda no daļām ir salauzta vai ja kādas daļas trūkst.

Lietuvių

PERSPĖJIMAS!

Nenaudokite, jei yra lūžusių, apgadintų dalių ar kurios nors dalies trūksta.

Portugues

ATENÇÃO!

Não utilizar se algum dos componentes estiver partido, danificado ou em falta.

Româna

AVERTISMENT!

Nu utiliza produsul dacă vreo parte este deteriorată, ruptă sau lipsește.

Slovensky

UPOZORNENIE!

Nepoužívajte, ak niektorá časť chýba, je zlomená alebo odtrhnutá.

Български

ВНИМАНИЕ!

Не използвайте този артикул, ако някоя от частите е счупена, скъсана или липсва.

Hrvatski

UPOZORENJE!

Ne koristiti ako je bilo koji dio slomljen, pokvaren ili nedostaje.

Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιήσετε αν κάποιο μέρος είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει.

Українська

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не використовуйте, якщо будь-яка його деталь зламана, пошкоджена або відсутня.

Srpski

UPOZORENJE!

Ne upotrebljavaj ako je bilo koji deo slomljen, pokvaren ili nedostaje.

Slovenščina

OPOZORILO!

Izdelka ne uporabljaj, če katerikoli sestavni del manjka ali je poškodovan.

Türkçe

UYARI!

Herhangi bir parçası kırılmış, yırtılmış veya eksikse kullanmayın.

中文

警告！

若发现任何零件损坏、磨损或遗失，请停止使用产品。

繁体中

注意！

若發現任何零件損壞、磨損或遺失，請停止使用產品。

한국어

주의!

제품의 일부가 파손되거나 제자리에 없는 경우 사용하지 마세요.

日本語

警告！

パーツが破損、不足している場合には、使用を中止してください。

Bahasa Indonesia

PERINGATAN!

Jangan gunakan jika ada bagian yang rusak, sobek atau hilang.

Bahasa Malaysia

AMARAN!

Jangan guna jika mana-mana bahagian didapati patah, koyak atau hilang.

عربي

تحذير!

لا تستخدم المنتج في حالة وجود كسر، تلف أو فقدان لأحد أجزائه.

ไทย

คำเตือน!

ห้ามใช้งานสินค้าหากมีชิ้นส่วนใดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย

English

WARNING!

This ironing board must not be used with a steam generator.

Deutsch

ACHTUNG!

Das Bügelbrett darf nicht in Verbindung mit einer Dampfbügelstation benutzt werden.

Français

AVERTISSEMENT :

cette table à repasser ne doit pas être utilisée avec une centrale vapeur (dans le cas des produits pour fer à repasser uniquement).

Nederlands

WAARSCHUWING!

De strijkplank mag niet worden gebruikt in combinatie met een stoomgenerator.

Dansk

ADVARSEL!

Strygebrættet må ikke bruges med et dampstrygejern.

Íslenska

VARÚÐ!

Ekki má nota gufutæki á strauborðinu.

Norsk

ADVARSEL!

Dette strykebrettet må ikke brukes sammen med en dampgenerator.

Suomi

VAROITUS!

Tätä silityslautaa ei saa käyttää höyryneheitin kanssa.

Svenska

VARNING!

Strykbrädan får inte användas tillsammans med en ångstation.

Česky

UPOZORNĚNÍ!

Toto žehličí prkno se nesmí používat s parním generátorem.

Español

¡ATENCIÓN! Esta tabla de planchar no debe utilizarse con un generador de vapor.

Italiano

AVVERTENZA! L'asse da stiro non deve essere usata con un generatore di vapore.

Magyar

FIGYELEM! A vasalódeszkát nem szabad gőzgenerátorral használni.

Polski

OSTRZEŻENIE!

Tej deski do prasowania nie można używać z generatorem pary.

Eesti

HOIATUS!

Antud triikimislauda ei tohi kasutada aurugeneraatoriga.

Latviešu

BRĪDINĀJUMS!

Nelietot gludināmo dēli ar tvaika gludināšanas sistēmu.

Lietuvių

PERSPĖJIMAS!

Nenaudokite lyginimo lentos drabužiams lyginti garintuvu.

Portugues

ATENÇÃO!

Esta tábua de engomar não deve ser utilizada com um ferro com caldeira.

Română

AVERTISMENT!

Această masă de călcat nu trebuie folosită cu un generator de abur.

Slovensky

UPOZORNENIE!

Dosku na žehlenie nepoužívajte s žehličkami s parnými generátormi.

Български

ВНИМАНИЕ!

Тази дъска за гладене не трябва да се използва с парен генератор.

Hrvatski

UPOZORENJE!

Daska za peglanje ne smije se upotrebljavati s proizvodom koji proizvodi paru.

Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η σιδερώστρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με σίδερο ατμού.

Українська

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не використовуйте прасувальну дошку із парогенератором.

Srpski

UPOZORENJE!

Daska za peglanje ne sme se upotrebljavati s proizvodom koji odaje paru.

Slovenščina

OPOZORILO!

Likalna deska se ne sme uporabljati skupaj s parnim generatorjem.

Türkçe

UYARI!

Bu ütü masası buhar kazanı ile kullanılmamalıdır.

中文

警告！

此熨衣板不可搭配蒸气熨烫机使用。

繁体中

注意！

此燙衣板不可搭配蒸氣熨燙機使用。

한국어

주의!

본 제품에 스팀다리미는 절대 사용하지 마세요.

日本語

警告！

このアイロン台は、スチームアイロンにはお使いいただけません。

Bahasa Indonesia

PERINGATAN!

Papan setrika ini tidak boleh digunakan dengan generator uap.

Bahasa Malaysia

AMARAN!

Papan seterika tidak seharusnya digunakan dengan penjana stim.

عربي

تحذير!

يجب عدم استخدام لوح الكي هذا مع مكواة بخارية.

ไทย

คำเตือน!

ห้ามใช้กับเตารีดไอน้ำ

English

WARNING!

Keep out of reach of children.

Deutsch

ACHTUNG!

Außer Reichweite von Kindern halten.

Français

AVERTISSEMENT :

tenir hors de portée des enfants.

Nederlands

WAARSCHUWING!

Buiten bereik van kinderen plaatsen.

Dansk

ADVARSEL!

Placeres uden for børns rækkevidde.

Íslenska

VARÚÐ!

Geymið þar sem börn ná ekki til.

Norsk

ADVARSEL!

Skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Suomi

VAROITUS!

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Svenska

VARNING!

Placera utom räckhåll för barn.

Česky

UPOZORNĚNÍ!

Udržujte mimo dosah dětí.

Español

¡ATENCIÓN!

Mantener fuera del alcance de los niños.

Italiano

AVVERTENZA!

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Magyar

FIGYELEM!

Gyermekektől távol tartandó.

Polski

OSTRZEŻENIE!

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Eesti

HOIATUS!

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Latviešu

BRĪDINĀJUMS!

Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Lietuvių

PERSPĖJIMAS!

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Portugues

ATENÇÃO!

Não deixe ao alcance das crianças.

Româna

AVERTISMENT!

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Slovensky

VÝSTRAHA!

Uchovávať mimo dosahu detí.

Български

ВНИМАНИЕ!

Дръжте далеч от деца.

Hrvatski

UPOZORENJE!

Držati izvan dosega djece.

Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Українська

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Тримайте подалі від дітей.

Srpski

UPOZORENJE!

Drži van domašaja dece.

Slovenščina

OPOZORILO!

Shrani izven dosega otrok.

Türkçe

UYARI!

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

中文

警告!

请将产品放在儿童接触不到的位置。

繁体中

注意!

請勿讓兒童接觸

한국어

주의!

어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

日本語

警告!

お子さまの手の届かない場所に保管してください。

Bahasa Indonesia

PERINGATAN!

Jauhkan dari jangkauan anak.

Bahasa Malaysia

AMARAN!

Jauhkan daripada kanak-kanak

عربي

تحذير!

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

ไทย

คำเตือน!

เก็บให้พ้นจากมือเด็ก



English

WARNING!

Tipping hazard. If used with an iron, the steam generator must not be placed on the ironing board.

Deutsch

ACHTUNG!

Kippgefahr. Bei Verwendung mit einem Bügeleisen darf der Dampfgenerator nicht auf dem Bügelbrett abgestellt werden.

Français

AVERTISSEMENT !

Risque de basculement. Si vous utilisez une centrale vapeur, ne pas la poser sur la planche à repasser.

Nederlands

LET OP!

Kantelgevaar. Bij gebruik met een strijkijzer mag de stoomgenerator niet op de strijkplank worden geplaatst.

Dansk

ADVARSEL!

Produktet kan vælte. Hvis der anvendes strygejern, må dampstationen ikke anbringes på strygebrættet.

Íslenska

VARÚÐ!

Fallhætta. Ekki má setja gufutæki á strauborðið ef það er notað með straujárninu.

Norsk

ADVARSEL!

Veltefare. Hvis den brukes med et strykejern, må dampgeneratoren ikke plasseres på strykebrettet.

Suomi

VAROITUS!

Kaatumisvaara. Jos tuotetta käytetään höyrygeneraattorilla varustetun silitysraudan kanssa, höyrygeneraattoria ei saa asettaa silityslaudalle.

Svenska

VARNING!

Tipprisk. Om den används tillsammans med ett strykjárn, får ånggeneratören inte placeras på strykbrådan.

Česky

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí převržení. Při použití s žehličkou nesmí být parní generátor umístěn na žehlicím prkně.

Español

ADVERTENCIA.

Riesgo de vuelco. Si se usa con una plancha, no se debe colocar el generador de vapor sobre la mesa de plancha.

Italiano

AVVERTENZA!

Rischio di ribaltamento. Se usato in combinazione con un ferro da stiro, il generatore di vapore non deve essere posato sull'asse da stiro.

Magyar

FIGYELEM!

Felborulás veszélye! Ha vasalóval használsz, a gőzölő nem szabad rátenni a vasalódeszkára.

Polski

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko przewrócenia. Jeśli żelazko ma generator pary, nie wolno stawiać go na desce do prasowania.

Lietuvių

ĮSPĖJIMAS!

Apvirtimo rizika. Naudojant su lygintuvu, garų generatoriaus negalima statyti ant lyginimo lentos.

Portugues

ATENÇÃO!

Perigo de queda. Se for utilizada com um ferro, este não deve ser colocado sobre a tábua de engomar.

Româna

AVERTISMENT!

Pericol de răsturnare. Atunci când se folosește cu un fier de călcat, generatorul de abur nu trebuie așezat pe masa de călcat.

Slovensky

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo prevrátenia. Ak sa používa so žehličkou, parný generátor nesmie byť položený na žehliacej doske.

Български

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от преобръщане. Ако се използва с ютия, парогенераторът не трябва да се поставя върху дъската за гладене.

Hrvatski

UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja. Ako se koristi s glačalom, proizvod koji proizvodi paru ne smije se stavljati na dasku za glačanje.

Українська

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Ризик перекидання. Під час використання з праскою не розміщуйте парогенератор на прасувальній дошці.

Srpski

PAŽNJA!

Opasnost od prevrtanja. Ako se koristi s peglom, generator pare ne sme da se stavi na dasku za peglanje.

Slovenščina

POZOR!

Nevarnost prevrnitve. Pri uporabi likalnika generatorja pare ni dovoljeno postaviti na desko.

Türkçe

UYARI!

Devrilmeye tehlikesi. Ütü ile kullanıldığında, buhar jeneratörü ütü masasının üzerine yerleştirilmemelidir.



中文

安全警示！

倾倒风险。如与熨斗一起使用，蒸气熨烫机
不得放在熨衣板上。

繁中

警告！

傾倒危險。如與熨斗一同使用，請勿將蒸氣
熨燙機放在熨衣板上

한국어

주의!

제품이 넘어질 수 있습니다. 다리미와 함께 사용
시 스팀다리미를 다리미판에 올려 놓으면 안
됩니다.

日本語

警告：

転倒の危険があります。スチームアイロン
をアイロン台の上に置いたままにしないで
ください

Bahasa Indonesia

PERINGATAN!

Bahaya terjatuh. ika digunakan dengan
setrika, generator uap tidak boleh
diletakkan di atas papan setrika.

عربي





تحذير!



خطر انقلاب. عند الاستخدام مع مكواة، يجب
عدم وضع مولد البخار على لوح الطاولة.

ไทย




คำเตือน!

อันตรายจากเฟอร์นิเจอร์ล้มคว่ำ หากใช้งานกับ
เตารีด ห้ามวางเตารีดแรงดันไอน้ำไว้บนโต๊ะรีด







2




3





i




i








2



3



4

